

Ramadan 1439 München - Mai-Juni 2018

O ihr , die ihr glaubt ! Das Fasten ist euch vorgeschrieben,
so wie es denen vorgeschrieben war , die vor euch waren.
Vielleicht werdet ihr (Allah) furchten.

Mai	Ram.	Tag	Fajr	Son.Auf	Dhuhr	Asr	Maghrib	Ischa
16	1	Mittwoch	03:14	05:34	13:11	18:26	20:47	23:07
17	2	Donnerstag	03:13	05:33	13:11	18:27	20:48	23:08
18	3	Freitag	03:12	05:32	13:11	18:28	20:49	23:09
19	4	Samstag	03:11	05:31	13:11	18:28	20:50	23:10
20	5	Sonntag	03:09	05:29	13:11	18:29	20:52	23:12
21	6	Montag	03:08	05:28	13:11	18:30	20:53	23:13
22	7	Dienstag	03:07	05:27	13:11	18:31	20:54	23:14
23	8	Mittwoch	03:06	05:26	13:11	18:31	20:55	23:15
24	9	Donnerstag	03:05	05:25	13:11	18:32	20:57	23:17
25	10	Freitag	03:04	05:24	13:11	18:33	20:58	23:18
26	11	Samstag	03:03	05:23	13:11	18:33	20:59	23:19
27	12	Sonntag	03:02	05:22	13:11	18:34	21:00	23:20
28	13	Montag	03:01	05:21	13:11	18:35	21:01	23:21
29	14	Dienstag	03:00	05:20	13:11	18:35	21:02	23:22
30	15	Mittwoch	03:00	05:20	13:12	18:36	21:03	23:23
31	16	Donnerstag	02:59	05:19	13:12	18:36	21:04	23:24
01Juni	17	Freitag	02:58	05:18	13:12	18:37	21:05	23:25
02	18	Samstag	02:57	05:17	13:12	18:38	21:06	23:26
03	19	Sonntag	02:57	05:17	13:12	18:38	21:07	23:27
04	20	Montag	02:56	05:16	13:12	18:39	21:08	23:28
05	21	Dienstag	02:56	05:16	13:12	18:39	21:09	23:29
06	22	Mittwoch	02:55	05:15	13:13	18:40	21:10	23:30
07	23	Donnerstag	02:55	05:15	13:13	18:40	21:10	23:30
08	24	Freitag	02:54	05:14	13:13	18:41	21:11	23:31
09	25	Samstag	02:54	05:14	13:13	18:41	21:12	23:31
10	26	Sonntag	02:53	05:13	13:13	18:42	21:13	23:33
11	27	Montag	02:53	05:13	13:14	18:42	21:13	23:33
12	28	Dienstag	02:53	05:13	13:14	18:43	21:14	23:34
13	29	Mittwoch	02:53	05:13	13:14	18:43	21:15	23:35
14	30	Donnerstag	02:53	05:13	13:14	18:43	21:15	23:35

سحری کی دعا
وَبِصَوْمِ غَدِنُوَيْتُ مِنْ شَبْرِ رَمَضَانَ
میں نے رمضان کے اس روزے
کی نیت کی



افطاری کی دعا
اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ لَكَ صُيْمْتُ وَبِكَ اَمْنْتُ وَ
عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ
اے اللہ میں نے روزہ رکھا تیرے لیے اور
ایمان لایا تجھ پر اور بھروسہ کیا
تجھ پر اور افطار کیا تیرے ہی رزق سے۔



پہلے عشرے کی دعا:- رَبِّ اغْفِرْ وَرَحْمَةً وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ
دوسرے عشرے کی دعا:- اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَتُوبُ اِلَيْهِ
تیسرے عشرے اور شب قدر کی دعا:- اَللّٰهُمَّ اِنِّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ يَا غَفُوْرُ
يا غَفُوْرُ يَا غَفُوْرُ۔ (ابن ماجہ، ترمذی)